(For all sessions)

Paper Code

## گروپ-۱۱-Group

General	Science (Objective Type)	RwP-92-22	ل (معروضی)	جزل سائنه
Marks: 15	Time: 20 M	وقت:20منك Iinutes		نمبر:15

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوائی کا لی رکھیئے ہرسوال کے جار مکنہ جوابات C,B,A, اور D دیے گئے ہیں، جس جواب کوآپ درست مجھیں، جوائی کا لی پراس سوال نمبر کے سامنے جزو C,B، A یا Dکے دائروں میں سے متعلقہ دائر سے کو مارکریا پین کی سیابی سے جردیں۔

<b>NOTE:</b> Write answers to the questions on objective	answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to
each question are given. Which answer you consider	correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front
of each question with Marker or pen ink on the answer	er sheet provided.
1.1. The inventor of radio system was:	1.1. ريْد يوسسم كاموجدها:
ارکونی (A) Marconi	(B) Newton يُوثن
(C) Alberuni البيروني	(D) Jabir-bin-Hayan פּוֹא איט בוויט
2. The first laser material ever used is:	2. پہلااستعال ہونے والالیز دمیشریل ہے:
(A) Glass crystal گلاں کرشل (B) Silicon ملیکان	رونی کرشل (D) Rubi crystal آرگون (C) Argon
3. The laser used for operating cataract is:	3. موتيائے آيريشن كيلئے استعال مونے والاليزر ہے:
يون B) Neon کرپان (A) Krypton	(C) Argon آرگون (D) Xenon
4. The number of electrodes used to get EEG are:	
(A) 15 (B) 16	(C) 18 (D) 20
5. The SUPARCO was established in:	5. سپارکوبنایا گیا:
(A) 1961 (B) 1951	(C) 1971 (D) 1981
6. Headquarter of SUPARCO is situated at:	6. ساركوكامية كوارشي ين ب:
(A) Lahore טואפו (B) Multan ג'י	(C) Karabi 215 (D) Crimet
7. The unit of energy is:	ران (C) Joule جرات (D) Gujrat جرات 7. انر کی کا یونٹ ہے: عینڈ (D) Second جول
(A) Newton يُوثّن (B) Meter	(C) Joule بيكند (D) Second بيكند
8. By burning fossil fuels we get:	8. نوسل فيولز جلانے سے حاصل ہوتی ہے:
الكل ياور (B) Tidal power) مول ياور (A) Solar power)	
9. Organic matter and its residues are called:	9. نامياً تي ماد اوران كي با قيات كهلاتي مين:
(A) Solid waste سالڈویٹ	(B) Nuclear waste نیوکلیتروییث
(C) Biomass الميواس	(D) Biogas بائزگیس
10. The device which used to store charges is called	
(A) Switch و (B) Resistor رزسر	(C) Fuse فيوز (D) Capacitor
11. The instrument which is also called avometer:	11. ايها آله جوايوم مرتبهي كهلاتا ہے:
الثي مير (A) Multimeter	(B) Resistance رزشنس
وولث مير (C) Voltmeter	(D) None of these ان میں ہے کوئی نہیں
12. The equation according to Ohm's law is:	12. اوہم کے قانون کیمطابق مساوات ہے:
(A) R=V (B) V=IR	(C) R=VI (D) I=VR
13. The SI unit of resistance is:	13. رزشنس كا الايون ہے:
(A) Ampere المينيز	(B) Resistance رزمین
رفینظل و فرینس Potential difference	(D) $Ohm(\Omega)$ (iii)
14. It is an input device:	14. بدا كدان يُك آلدے:
(A) Speaker سیکر (B) Monitor	14. بيرا يك اِن پُث آلد ب: بينتر (D) Printer بينتر 15. بائنرى سٹم ميں "2" كوكھا جا تا ب:
15. 2(Two) is written in binary system as:	15 پائنزی سٹم میں "2" کوکھاجاتے:
	7.1.2 - 0 1 07 1110

39-10-A-☆☆☆----

(C) 1000

(B) 100

(A) 10

(D) 10000

Roll No	أميدوارخود پر كرے	(For all sessions)	
		گروپ-۱۱	جز ل سامس (الثاني)
كل نمبر: 60			
	Rup-a	صرادل سدد	وتت:2:10 كفنني
12=6x2		-2-	2- درج ذیل میں سے کوئی سے چھاجزاء کے تقر جواہات تحریر ؟
	iii. ملى كميونيكيشن كى تعريف كرير-	ii. ماحول کِی ابتری ہے کیا مراد ہے؟	i. نیوکلیئر فیوژن ہے کیا مراد ہے؟
61.	vi. شارٹ سرکٹ سے کیا مراد ہے؟	٧. كىيىر كى چار جنگ سے كيامراد ہے؟	iv. سرکٹ کے اجزاء کے نام کھیئے۔
یں اور مثال معیں۔	ix. ایلاسک پوئینشل از جی کی تعریف کر	iii. رینی میلیشن سے کیامراد ہے؟	vii. ريورس بائيسية ڈائيوڈ کی تعریف کریں۔
12=6x2			3- درج ذیل میں سے کوئی سے چھا جزاء کے محتصر جوابات کر ہے بھی
کام ہے؟	iii کارٹیلی ویژن میں الیکٹران گنز کا کیا	ii. ایک کلوواٹ مقدار کی وضاحت کریں۔	i. انر جی کی طلب ہے کیا مراد ہے؟
بيان يچيئے ۔	vi فلا في دُسك اور باردُ دُسك مير فرق	٧. ملتي ميشر مس كام آتا ہے؟	E.E.G .iv
رق ہے؟	ix. فکسڈ اور ویری اینل کیپسٹر زمیں کیافی	viii. ورک اور ازجی میں کیا فرق ہے؟	vii. الكشرونكس كياتي؟ أسكافتكشن لكهيئ -
12=6x2		-2	4- درج ذیل میں سے کوئی سے جھا جزاء کے مختصر جوابات تحریر سیج
	iii. جیوشیشزی مدارے کیامرادے؟	ii. ای-س-جی کے دوفائد کے کھیئے۔	ا لیزر بنانے کیلئے کوئی اشیاء استعال کی جاتی ہیں؟
C.	vi. سٹیل میں بخق کس طرح پیدا کی جاتی	٧. س- في سكين سے كيامراد ہے؟	/
			١٧. ريد يوآ كمولو پس كے دوفائد تيج ير ليجيئے -
	ix. ہبل نیلی سکوپ کے بارے میں آپ	iii). كلاميما لولوجي كى تعريف ليجيئے -	vii. مصنوعی سیطل سیف کے دوفا کدئے فریر کریں۔
24=3x8		ته به حصّه دوم	
	6	الجوابات فحريركرين-	نوف درج ذیل میں سے کوئی سے بین سوالات
04=4x1	م المحين -	،بیان کریں۔ <b>04 (ب)</b> ازجی کے تحفظ پرنور	5. (الف) از بی تحصول کے کوئی سے دوغیرروای طریق
04=2+1+1	س کے کام اوراقسیام کی وضاحت کریں۔	ياس 2+2=0 (ب) ثرانىفارمركيام؟ ا	6. (الف) اوہم كا قانون مان كري اوراس كى مساوات للصير
04=3+1	نبیٹ کے تین فوائد کر پر کیجیئے ۔	کیے بھی ہیں؟ 04 (ب) انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹر	7. (الف) ريد يوويوز كيابوني بن؟ ريديوي نشريات بم تك
04=2+2		کیاسہولیات آئی ہیں؟ نسی ایک کو تفصیل سے بیان کلھیر	8. (الف) جديد تيكنالوجي كي وجه عطب عميدان ميل كيا
04			(ب) لیدرانڈسٹری کے متعلق آپ کیا جائے ہیں آ
الات تكصيل <u>- 2+2=04</u>	رِوگرام کےمیڈ بسن اورز راعت میں دودواستع	ہے 04 (ب) پاکتان کے نیوکلیٹری	9. (الف) يا كتان كالبيس بروگرام كيا ہے؟ تفصيل كلمين
			, ", ,
Cananal	Caionas		
General	Science (Essay T	ype) Group-II (For all s	sessions)
Time: 2:10 Ho	urs	Section -I	Total Marks: 60
2- Write short	answers of any six parts	s from the following.	2x6=12
i Mhat is me		An and the second secon	
i. VVIIat is ille	eant by nuclear fusion?	ii. What is mea	ant by degradation of environment?
	eant by nuclear fusion? ecommunication.		ant by degradation of environment? imes of component of circuit.
iii. Define Tele		iv. Write the na	
iii. Define Tele v. What is me	ecommunication.	iv. Write the na vi. What is mea	mes of component of circuit.
<ul><li>iii. Define Tele</li><li>v. What is me</li><li>vii. Define reve</li></ul>	ecommunication. eant by charging of a capa	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea	mes of component of circuit. ant by short circuit?
<ul><li>iii. Define Tele</li><li>v. What is me</li><li>vii. Define reve</li><li>ix. Define elas</li></ul>	ecommunication. eant by charging of a capa erse biased diode.	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea rite an example.	mes of component of circuit. ant by short circuit?
<ul><li>iii. Define Tele</li><li>v. What is me</li><li>vii. Define reve</li><li>ix. Define elas</li><li>3- Write short</li></ul>	ecommunication.  eant by charging of a capa  erse biased diode.  stic potential energy and w	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea rite an example.	imes of component of circuit. ant by short circuit? ant by rectification?
<ul><li>iii. Define Tele</li><li>v. What is me</li><li>vii. Define reve</li><li>ix. Define elas</li><li>3- Write short</li><li>i. What is me</li></ul>	ecommunication.  eant by charging of a capa- erse biased diode.  etic potential energy and w  answers of any six parts  eant by demand of energy.	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea rite an example.	ames of component of circuit.  ant by short circuit?  ant by rectification?  2x6=12  quantity of One kilowatt.
<ul> <li>iii. Define Tele</li> <li>v. What is me</li> <li>vii. Define reve</li> <li>ix. Define elas</li> <li>3- Write short</li> <li>i. What is me</li> <li>iii. What is the</li> </ul>	ecommunication.  eant by charging of a capa- erse biased diode.  etic potential energy and w  answers of any six parts  eant by demand of energy.	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea viii. What is mea rite an example.  s from the following. ? ii. Explain the of in television? iv. What is mea	ames of component of circuit.  ant by short circuit?  ant by rectification?  2x6=12  quantity of One kilowatt.
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. etic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy eticnotion of electron guns	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viite an example.  s from the following.  ii. Explain the of it. What is mea vi. Differentiate	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G?
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele	ecommunication. eant by charging of a capa- erse biased diode. etic potential energy and w answers of any six parti- eant by demand of energy' e function of electron guns e use of Multimeter?	iv. Write the navi. What is meaviii. What is meaviiie an example.  from the following.  ii. Explain the ovi. Differentiate viii. Differentiate	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk?
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele ix. What is the	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. etic potential energy and we answers of any six particular and by demand of energy and the function of electron guns as use of Multimeter? ectronics?Write its function difference between fixed	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viite an example.  from the following.  ii. Explain the viii television? iv. What is mea vi. Differentiate viii. Differentiate and variable capacitor?	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk?
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele ix. What is the	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. etic potential energy and we answers of any six particular by demand of energy and function of electron guns e use of Multimeter?	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viite an example.  from the following.  ii. Explain the viii television? iv. What is mea vi. Differentiate viii. Differentiate and variable capacitor?	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the viii. What is ele ix. What is the 4- Write short i. Which object	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. etic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy function of electron guns e use of Multimeter? ectronics?Write its function difference between fixed answers of any six parts ets are used for laser?	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viite an example.  It is from the following.  It is in television? iv. What is mea vi. Differentiate viii. Differentiate and variable capacitor?  If from the following.  It is write two us	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele ix. What is the 4- Write short i. Which object iii. What is me	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. etic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy a function of electron guns e use of Multimeter? ectronics?Write its function difference between fixed answers of any six parts	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viite an example.  It is from the following.  It is in television? iv. What is mea vi. Differentiate viii. Differentiate and variable capacitor?  If from the following.  It is write two us	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12  quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12  ese of ECG. enefits of Radio-isotopes.
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele ix. What is the 4- Write short i. Which object iii. What is me v. What is me	ecommunication.  eant by charging of a capacerse biased diode.  etic potential energy and we answers of any six particular and the particular and	iv. Write the navi. What is meaviii. What is meaviii. What is meaviite an example.  from the following.  ii. Explain the original in television?  iv. What is meavi. Differentiate viii. Differentiate viii. Differentiate and variable capacitor?  from the following.  ii. Write two us iv. Write two be vi. How steel is	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ese of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder?
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele ix. What is the 4- Write short i. Which object iii. What is me v. What is me vii. Write two ac	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. estic potential energy and we answers of any six parts and by demand of energy efunction of electron guns e use of Multimeter? ectronics?Write its function of difference between fixed answers of any six parts are used for laser? eant by Geo-Stationary orbitant by CT scan?	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viite an example.  If the following.  In television?  I	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ese of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder?
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele ix. What is the 4- Write short i. Which object iii. What is me v. What is me vii. Write two ac	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. etic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy efunction of electron guns e use of Multimeter? ectronics?Write its function difference between fixed answers of any six parts ets are used for laser? ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan?	iv. Write the na vi. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viii. What is mea viite an example.  If the following.  In television?  I	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ese of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder?
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele ix. What is the 4- Write short i. Which object iii. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. etic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy efunction of electron guns e use of Multimeter? ectronics?Write its function difference between fixed answers of any six parts ets are used for laser? ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan?	iv. Write the navi. What is meaviii. What is meaviii. What is meaviite an example.  It is from the following.  It is in television?  It is iv. What is meavi. Differentiate viii. Differentiate viii. Differentiate viii. Differentiate and variable capacitor?  If is from the following.  If iv. Write two us iv. Write two be vi. How steel is viii. Define Climatescope?  Section -II	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 des of ECG. denefits of Radio-isotopes. made harder? atology.
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele ix. What is the ix. What is the ix. What is me v. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answer	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. estic potential energy and we answers of any six parts and by demand of energy efunction of electron guns e use of Multimeter? ectronics? Write its function of difference between fixed answers of any six parts are used for laser? ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan? dvantages of Artificial Sate to know about Hubble Telester any three questions from	iv. Write the navi. What is meaviii. What is meaviii. What is meaviite an example.  It is from the following.  It is in television?  It is iv. What is meavi. Differentiate viii. Differentiate viii. Differentiate viii. Differentiate and variable capacitor?  If is from the following.  If iv. Write two us iv. Write two be vi. How steel is viii. Define Climatescope?  Section -II	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 des of ECG. denefits of Radio-isotopes. made harder? atology.
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is ele ix. What is the 4- Write short i. Which object iii. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. estic potential energy and we answers of any six parts and by demand of energy efunction of electron guns e use of Multimeter? ectronics? Write its function of difference between fixed answers of any six parts are used for laser? ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan? dvantages of Artificial Sate to know about Hubble Telester any three questions from	iv. Write the navi. What is meanite an example.  If the following.  If the intelevision?  If the intelevision is intelevision?  If the intelevision is intelevision?  If the intelevision is intelevision intelevision intelevision?  If the intelevision is intelevision	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ses of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder? atology.
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is the vii. What is the ix. What is the ix. What is me v. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe (b) Write a no	ecommunication. eant by charging of a capacerse biased diode. edic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy efunction of electron guns e use of Multimeter? ectronics?Write its function difference between fixed answers of any six parts ets are used for laser? ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan? dvantages of Artificial Sate to know about Hubble Telectrony two non traditional metals.	iv. Write the navi. What is meanite an example.  If the following.  If the following.  If the following is in television?  If the following is in television?  If the following is in television?  If the following is in the following is in the following is in the following in the following in the following is in the following in the following is in the following in the following is in the following in the following in the following is in the following in the foll	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ses of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder? atology.  8x3= 24
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is the ix. What is the ix. What is the ix. What is me v. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe (b) Write a no 6. (a) State Ohr	ecommunication.  eant by charging of a capacerse biased diode.  etic potential energy and we answers of any six parts eant by demand of energy at function of electron guns e use of Multimeter?  ectronics? Write its function difference between fixed answers of any six parts ets are used for laser?  eant by Geo-Stationary orbitant by CT scan?  dvantages of Artificial Sate used we have about Hubble Telester any three questions from any two non traditional mediate on conservation of energy	iv. Write the navi. What is meanite an example.  If the following.  Ii. Explain the following.  Iii. Explain the following.  Iii. Differentiate wiii. Differentiate wiii. Differentiate wiii. Differentiate wiii. Write two us iv. Write two be with the following.  Iii. Write two us iv. Write two be with the following.  Iii. Define Climate wiii. Define Climate wiii. Define Climate wiii. Define Climate wiii. Define Climate wiiii. Define Climate wiiii. Define Climate wiiiii. Define Climate wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ges of ECG. anefits of Radio-isotopes. made harder? atology.  8x3= 24  04 1x4=04
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is the vii. What is the vii. What is the ix. What is me iii. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe (b) Write a no 6. (a) State Ohr (b) What is tr 7. (a) What are	ecommunication.  eant by charging of a capacerse biased diode.  estic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy' e function of electron guns e use of Multimeter?  ectronics?Write its function difference between fixed answers of any six parts eats are used for laser? ant by Geo-Stationary orbit ant by CT scan? dvantages of Artificial Sate to know about Hubble Tele er any three questions from any two non traditional metote on conservation of energy eransformer?Describe its worradiowaves?How radio tra	iv. Write the navi. What is meanite an example.  From the following.  ii. Explain the example iv. What is meanite iv. What is meanite iv. What is meanite iv. What is meanite iv. Differentiate iv. Differentiate iv. Differentiate iv. Write two use iv. Write two use iv. Write two be iv. How steel is ellites.  From the following.	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 es of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder? atology.  8x3= 24  04 1x4=04 2+2=04
iii. Define Tele v. What is me vii. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is the vii. What is the vii. What is the viii. What is me iv. What is me v. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe (b) Write a no 6. (a) State Ohr (b) What is tr 7. (a) What are (b) What is in	ecommunication.  eant by charging of a capacerse biased diode.  etic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy a function of electron guns e use of Multimeter?  ectronics? Write its function difference between fixed answers of any six parts ets are used for laser?  ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan?  dvantages of Artificial Sate u know about Hubble Televany two non traditional mediate on conservation of enemy's law and write its equationary orbitants of the conservation of enemy and write its equationary orbitants are used for laser?	iv. Write the navi. What is meanite an example.  If the following.  If the following electricity.  I	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ses of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder? atology.  8x3= 24  04 1x4=04 2+2=04 1+1+2=04 04 1+3=04
iii. Define Tele v. What is me vii. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is the vii. What is the vii. What is the viii. What is me iv. What is me v. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe (b) Write a no 6. (a) State Ohr (b) What is tr 7. (a) What are (b) What is in	ecommunication.  eant by charging of a capacerse biased diode.  etic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy a function of electron guns e use of Multimeter?  ectronics? Write its function difference between fixed answers of any six parts ets are used for laser?  ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan?  dvantages of Artificial Sate u know about Hubble Televany two non traditional mediate on conservation of enemy's law and write its equationary orbitants of the conservation of enemy and write its equationary orbitants are used for laser?	iv. Write the navi. What is meanite an example.  From the following.  ii. Explain the example iv. What is meanite iv. What is meanite iv. What is meanite iv. What is meanite iv. Differentiate iv. Differentiate iv. Differentiate iv. Write two use iv. Write two use iv. Write two be iv. How steel is ellites.  From the following.	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ses of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder? atology.  8x3= 24  04 1x4=04 2+2=04 1+1+2=04 04 1+3=04
iii. Define Tele v. What is me vii. Define reve ix. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is the vii. What is the ix. What is the ix. What is me vii. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe (b) Write a no 6. (a) State Ohr (b) What is tr 7. (a) What are (b) What is in 8. (a) Which face	ecommunication.  eant by charging of a capacerse biased diode.  etic potential energy and wanswers of any six parts eant by demand of energy a function of electron guns e use of Multimeter?  ectronics? Write its function difference between fixed answers of any six parts ets are used for laser?  ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan?  dvantages of Artificial Sate u know about Hubble Televany two non traditional mediate on conservation of enemy's law and write its equationary orbitants of the conservation of enemy and write its equationary orbitants are used for laser?	iv. Write the navi. What is meanite an example.  If the following.  If the following electricity.  If the following electricit	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ses of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder? atology.  8x3= 24  04 1x4=04 2+2=04 1+1+2=04 04 1+3=04
iii. Define Tele v. What is me vii. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is the vii. What is the ix. What is the vii. What is me vii. What is me v. What is me v. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe (b) Write a no 6. (a) State Ohr (b) What is tr 7. (a) What are (b) What is in 8. (a) Which face (b) What do yo	ecommunication.  cant by charging of a capacerse biased diode.  citic potential energy and we answers of any six parts of the capacers of any six parts of the capacers of the	iv. Write the navi. What is meanite an example.  If the following.  Ii. Explain the following.  Iii. Explain the following.  Iii. Differentiate viii. Differentiate viii. Differentiate viii. Differentiate viii. Write two us iv. Write two us iv. Write two be vi. How steel is viii. Define Climate viiii. Define Climate viiiii. Define Climate viiiii. Define Climate viiiii. Define Climate viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ses of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder? atology.  8x3= 24  04 1x4=04 2+2=04 1+1+2=04 04 1+3=04 2+04 2+2=04 04 1+3=04 04 1+3=04
iii. Define Tele v. What is me vii. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is the vii. What is the ix. What is the ix. What is me vii. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe (b) Write a no 6. (a) State Ohr (b) What is tr 7. (a) What are (b) What is in 8. (a) Which fac (b) What do y 9. (a) What is si	ecommunication.  cant by charging of a capacerse biased diode.  citic potential energy and wanswers of any six particles and by demand of energy's function of electron guns a use of Multimeter?  cotronics?Write its function difference between fixed answers of any six parts are used for laser?  ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan?  dvantages of Artificial Sate au know about Hubble Telectronics and the properties of the conconservation of energy two non traditional metals and write its equations from the conconservation of energy and wand write its equations from the conconservation of energy and wand write its equations from the conconservation of energy and wand write its equations from the conconservation of energy and wand write its equations are obtained by more you know about leather incompace program of Pakistan'	iv. Write the navi. What is meanite an example.  From the following.  ii. Explain the example iv. What is meanite and variable capacitor?  From the following.  ii. Write two use iv. Write two use iv. Write two be vi. How steel is viii. Define Climate viiii. Define Climate viiiii. Define Climate viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ses of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder? atology.  8x3= 24  04 1x4=04 2+2=04 04 1+1+2=04 04 1+3=04 .Write in detail any of one.  04 04
iii. Define Tele v. What is me vii. Define elas 3- Write short i. What is me iii. What is the v. What is the vii. What is the vii. What is the ix. What is the ix. What is me vii. What is me v. What is me v. What is me vii. Write two ac ix. What do yo  Note: Answe 5. (a) Describe (b) Write a no 6. (a) State Ohr (b) What is tr 7. (a) What are (b) What is in 8. (a) Which fac (b) What do y 9. (a) What is si	ecommunication.  cant by charging of a capacerse biased diode.  citic potential energy and wanswers of any six particles and by demand of energy's function of electron guns a use of Multimeter?  cotronics?Write its function difference between fixed answers of any six parts are used for laser?  ant by Geo-Stationary orbitant by CT scan?  dvantages of Artificial Sate au know about Hubble Telectronics and the properties of the conconservation of energy two non traditional metals and write its equations from the conconservation of energy and wand write its equations from the conconservation of energy and wand write its equations from the conconservation of energy and wand write its equations from the conconservation of energy and wand write its equations are obtained by more you know about leather incompace program of Pakistan'	iv. Write the navi. What is meanite an example.  From the following.  ii. Explain the example iv. What is meanite and variable capacitor?  From the following.  ii. Write two use iv. Write two use iv. Write two be vi. How steel is viii. Define Climate viiii. Define Climate viiiii. Define Climate viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	ant by short circuit? ant by rectification?  2x6=12 quantity of One kilowatt. ant by E.E.G? between Floppy disk and Hard disk? between work and energy.  2x6=12 ses of ECG. enefits of Radio-isotopes. made harder? atology.  8x3= 24  04 1x4=04 2+2=04 04 1+1+2=04 04 1+3=04 .Write in detail any of one.  04 04